



1/2010 ﺔﻨﺎHIRAH

ଶ୍ରୀ ମହାତ୍ମା ଗାଁନ୍ଧିଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

۱. (۱) دیگر سریرهای خود را باز کنید و سرمه را در یک پارچه پوشیده بگذارید. این پارچه را بر روی سرمه می‌گذارید و سرمه را با یک پارچه پوشیده بگذارید.

٢٦٧

جعفر شریعت دستگیر شد

۳. مَنْهُوَ مَدِينَةٌ مَجْمُودَةٌ ؟
عَذْيَةٌ وَسَلَةٌ دَوْبَقَرٌ

(ر) حَلْفَسَوْغَارَةٌ سَرْجَرْ كَوْتَسْرَهْ كَوْتَسْرَهْ
سَوْغَرَهْ كَوْتَسْرَهْ رِسْرَهْ سَرْ.

(س) كَوْتَسْرَهْ كَوْتَسْرَهْ كَوْتَسْرَهْ سَرْ كَوْتَسْرَهْ كَوْتَسْرَهْ سَرْ
كَوْتَسْرَهْ كَوْتَسْرَهْ رِسْرَهْ كَوْتَسْرَهْ سَرْ.



(سر) حنفیہ تھے تحریر مساجد کے درجے پر فرمائیں۔

رَبِّيْنَةِ نَجَّارِيْنَ كَمِنْتَرِيْرَ دَكَوَّنَهُ مَكَوَّنَهُ دَكَوَّنَهُ مَكَوَّنَهُ
حَرَّهُ مَدَرَّجَهُ حَرَّهُ مَدَرَّجَهُ حَرَّهُ مَدَرَّجَهُ حَرَّهُ مَدَرَّجَهُ

(خ) مکانیزم انتقالی میگیرد که در آن مولکول های از پلیمر را که در میان دو پلیمر میگذرند، از پلیمر اول جدا شده و به پلیمر دوم اضافه میگردند.

(۷)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْهَا فَلَا يُنْهَا وَمَنْ يَرْجُو
أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهِ فَلَا يُرْجَعَ وَمَنْ يَرْجُو أَنْ يُغْرَقَ
فَلَا يُغْرَقَ وَمَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْرَجَ فَلَا يُخْرَجَ وَمَنْ يَرْجُو
أَنْ يُنْهَا فَلَا يُنْهَا وَمَنْ يَرْجُو أَنْ يُرْجَعَ إِلَيْهِ فَلَا يُرْجَعَ

(۱) حَدَّرْتُمْ حَنْدَنْدَرْتُمْ حَسَسَرْتُمْ حَنْدَنْدَرْتُمْ حَسَسَرْتُمْ حَنْدَنْدَرْتُمْ حَسَسَرْتُمْ

٤ . () سوْرَةُ الْمُنْذِرِ مُحَمَّدٌ نَّبِيُّ الْمُسْلِمِينَ رَبُّ الْكَوْكَبِ الْأَكْبَرِ
الْمُنْذِرُ بِإِذْنِ رَبِّهِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِمَنْ يَتَوَلَّ مِنْهُ مُؤْمِنٌ
لِمَنْ يَتَوَلَّ مِنْهُ مُؤْمِنٌ فَإِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُجْرِمِ
فَإِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُجْرِمِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(۷) مکالمہ علیہ حضرت علی بن ابی طالب



سُوْدَنْسَهْ مُوكَبْرَهْ ٦٦٩٠. هَرَبْرَهْ. هَرَبْرَهْ مُوكَبْرَهْ فِي نَهَارَهْ
شَفَّافَهْ، هَرَبْرَهْ. هَرَبْرَهْ. هَرَبْرَهْ هَرَبْرَهْ بَعْدَهْ بَعْدَهْ
عَلَيْهِ سَرْبَرْجَهْ ٦٦٩١. هَرَبْرَهْ مُوكَبْرَهْ حِسَرْتَهْ كَبَرْتَهْ حَرَقْهْ بَعْدَهْ.

(خ) ۸ حسنی سید علی شریعتی دهستانی سید علی شریعتی دهستانی سید علی شریعتی

جَسْوِيْرَةُ نَبَّالَةٍ كَبِيرَةٍ عَسْرَةُ
جَسْوِيْرَةُ مَهْرَبَةٍ كَبِيرَةٍ عَسْرَةُ



جِرْجِيرْ سَوْدَنْجَوْسْرْ جِرْجِيرْ (3)

جَنْدُهُرْ ۖ ۱۸ ۖ قُبَّهُرْ ۖ وَرْسَهُرْ ۖ (۴)

جَرْسَكَارْ بَرْجَرْ سَسَعْ بَلْجَرْ سَنْجَرْ (5)

سَمَّا بِهِ بَرْدَهُ مَكْفُوْلَهُ قَرْبَهُ دَرْنَهُ سَادَهُ سَرْفُوسُهُ
أَنْجَوْتَهُ نَجَّارَهُ قَرْبَهُ دَرْنَهُ سَادَهُ سَرْفُوسُهُ (6)

$$\text{حَرْجُونَ} \text{ حَرْجُونَ} \text{ حَرْجُونَ} \text{ حَرْجُونَ} \quad (8)$$

رَسُولِيْ دَوْلَتِيْ رِبَّوَيْ نَارِيْ سَرَوَمَوْ رِبَّوَيْ
رَسُولِيْ دَوْلَتِيْ رِبَّوَيْ نَارِيْ سَرَوَمَوْ رِبَّوَيْ

تَرْجِيْهُ عَنْتَهُ، وَتَرْجِيْهُ عَنْ مُبَعَّثِهِ سُرْوَمَهُ تَسْرِيْهُ
 تَرْجِيْهُ شَرِّهِ مَعْجَدِهِ وَتَرْجِيْهُ شَرِّهِ تَرْجِيْهُ شَرِّهِ
 سُرْوَمَهُ سُرْوَمَهُ سُرْوَمَهُ سُرْوَمَهُ سُرْوَمَهُ سُرْوَمَهُ
 فَرْسِرِهِ فَرْسِرِهِ فَرْسِرِهِ فَرْسِرِهِ فَرْسِرِهِ فَرْسِرِهِ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْتَجِعُ فِي دِينِهِ إِذَا هُوَ مُؤْمِنٌ بِاللّٰهِ وَالرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيمِ وَمَنْ يَرْتَجِعْ مِنْ دِينِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(۱) مکاری خواهی کرد که این را در این شرایط ممکن نداند.



مِنْظَرُ

مَدِينَةُ الْمُسْلِمِينَ

سَوْدَانِيَّ بَرْلَانْدَسْ وَغُرْغُورْسْ (1)

۵۲۰ ۵۲۰ (4)

(ر) ﻭ ﻉَوْدُ ﺔِسْرَارِ ﻦَبِيِّنَ ﻰَلَيْهِ ﺁَنْجَارٌ ﻭ ﻉَوْدُ ﺔِسْرَارِ ﻦَبِيِّنَ ﻰَلَيْهِ ﺁَنْجَارٌ،
سَوْدَارُ ﻦَبِيِّنَ ﻰَلَيْهِ ﺁَنْجَارٌ ﻭ ﻉَوْدُ ﺔِسْرَارِ ﻦَبِيِّنَ ﻰَلَيْهِ ﺁَنْجَارٌ،
اً سَوْدَارُ ﻦَبِيِّنَ ﻰَلَيْهِ ﺁَنْجَارٌ ﻭ ﻉَوْدُ ﺔِسْرَارِ ﻦَبِيِّنَ ﻰَلَيْهِ ﺁَنْجَارٌ.

(سر) ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

۷ . (۱) تحریک می‌شود تا در آن میانه از میانه این دو نسبت به هم برابر باشد.

(سر) ۴

(۲) مکاری کیوں ہے پرستی کا اثر کوئی سمجھنے کیلئے پڑھنے کا وجہ تھا۔



(۸) مکانیکی تحریکات کے طبقہ میں اسی طرح میں ایک بھروسہ مکانیکی تحریکات کا نام ملے گا۔

(س) تاج مشهور سرخ قیمت بزرگتر از خود است و معمول است که این سرخ را با نام خود نمایند.

(۲) تاج سوسرم خسرو اگر علیه سوسرم بخواهد که در حکم نشود
چه سرخوش اگر علیه سوسرم دستور میدهد پس سوسرم ناسخ نخواهد
بود.

(۸) **مَنْهُجُ الْمُسْلِمِ** **بِالْمُؤْمِنِ** **عَلَيْهِ الْمُصَدَّقَةِ** **وَالْمُؤْمِنُ** **عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ** **وَالْمُؤْمِنُ** **عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ**

٤٨ . (١) **تَعْلِمُهُ مُؤْمِنًا**
عَلَيْهِ شَفَاعَةٌ
عَلَيْهِ شَفَاعَةٌ
عَلَيْهِ شَفَاعَةٌ
عَلَيْهِ شَفَاعَةٌ
عَلَيْهِ شَفَاعَةٌ
عَلَيْهِ شَفَاعَةٌ

وَلِلَّهِ الْحُكْمُ وَالْحُسْنَى
يَعْلَمُ مَا يَصْنَعُونَ



(۴) **تَعْدِيْدُ مُسْكَنِ الْمُرْسَلِينَ** وَ**تَعْدِيْدُ مُسْكَنِ الْمُرْسَلِينَ** وَ**تَعْدِيْدُ مُسْكَنِ الْمُرْسَلِينَ**.

(۱) مُسَمِّرٌ، حَرْقَنْدٌ، وَرَقْبَرَقٌ سَرَومَهُ عَنْ سَوْلَهُ كَوْسَرَهُ
حَرْقَنْدٌ، سَرَومَهُ عَنْ سَوْلَهُ كَوْسَرَهُ
سَوْلَهُ كَوْسَرَهُ سَوْلَهُ كَوْسَرَهُ
سَرَومَهُ سَوْلَهُ كَوْسَرَهُ حَرْقَنْدٌ، حَرْقَنْدٌ، سَرَومَهُ سَوْلَهُ كَوْسَرَهُ
حَرْقَنْدٌ، سَرَومَهُ سَوْلَهُ كَوْسَرَهُ ۱۰

(م) اگر سر اور ٹوکڑے ویج گروہ میں تحریر میں درج نہ ہو تو اس سروسوں.

(سر) سے میراں کو سرو جو اچھا ہے نہ سرگزشتی ہے
پس پاؤں رکھ لیا جو بھرپور ایک ایک تھی نہ سرگزشتی ہے
خیلے خیال گھر کو سرو جو اچھا ہے نہ سرگزشتی ہے

(سر) گیوں میں تو اسے اپنے کوئی نہ سمجھتا تھا اور اسے کوئی نہ سمجھتا۔

(۸) حَوْنَاسُ، حَبَّسُ، قَبَسُ، حَمَّاسُ، رَحَمُ، بَرَّامُ، بَرَّامُ
شَوَّامُ وَرَجَامُ وَنَجَامُ شَوَّافُ مَهَافُ شَوَّافُ قَوَافُ دَرَجُ نَدَاجُ

(٤) حَسْنَةٌ مُوَمِّدَةٌ حَسْنَةٌ مُوَمِّدَةٌ

(v) **أَنْجُونَتِي سَوْرَتِي** **جَعَلَتِي** **كُلَّ سَرَّهُ كُلَّهُ** **سَأَنْجُونَ** **سَرْجُونَ**.

١٠ . (أ) دَيْنِ سَرَّارِ مَحْمُودَ عَلَيْهِ الْفَضْلَةِ لِرَسْتَنْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ
دَيْنِ سَرَّارِ مَحْمُودَ عَلَيْهِ الْفَضْلَةِ لِرَسْتَنْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ
دَيْنِ سَرَّارِ مَحْمُودَ عَلَيْهِ الْفَضْلَةِ لِرَسْتَنْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ
دَيْنِ سَرَّارِ مَحْمُودَ عَلَيْهِ الْفَضْلَةِ لِرَسْتَنْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ
دَيْنِ سَرَّارِ مَحْمُودَ عَلَيْهِ الْفَضْلَةِ لِرَسْتَنْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ كَوَافِرْ



(مر) **لِيْلَةُ الْمَحْرُومِ** تَاجِ دِينَارٍ حَسَنَةٌ مَوْسَى
دَعْوَةٌ لِلْمُهَاجِرِ حَسَنَةٌ مَوْسَى تَاجِ دِينَارٍ حَسَنَةٌ مَوْسَى
أَنْجَانِيْلَهُ دَعْوَةٌ مَوْسَى تَاجِ دِينَارٍ حَسَنَةٌ مَوْسَى
بَرْجَانِيْلَهُ دَعْوَةٌ مَوْسَى تَاجِ دِينَارٍ حَسَنَةٌ مَوْسَى



جَنْوَبٌ رَّجَسْتَان

(خ) در ۱۰۰ هر ده ساله تعداد شهروندان خواسته شده از این تعداد میتواند برابر باشد
سربرد شرکت‌ها و سازمان‌های غیردولتی در این دوره شرکت کنند.

13. ፳፻፲፭ ዓ.ም. በፌዴራል ተወስኝ ቅሬታዎች መሆኑን ከፌዴራል ተወስኝ ቅሬታዎች የፌዴራል ተወስኝ ቅሬታዎች የፌዴራል ተወስኝ ቅሬታዎች

مَنْ يَرَى
فَلَمْ يَرَهُ
فَلَمْ يَرَهُ

(سر) دیگر مکاری (-) آنچه نیز قویتر دیگرچنانچه بود که شاهزاده خود را
سوزن می‌خواست تا از این دلیل پنهان نماید و از قوهای سرمهای رشید نمود.
آنچه این مکار را بگیرد بتواند این دلیل را درست باشد. این دلیل این است
که شاهزاده خود را می‌خواستند سرمهای رشید نمایند.

وَمَنْ يُعِظُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

تاریخ ۲۰۰,۰۰۰/- ۱۳۹۷ میلادی

جَنْدُهُرْ؟ سُرْوَمَ

36 3 (2)



سی و نوئے پریزیڈنٹ نے ۱۵۔ (۱) میں سے کوئی مکاری کرنے کا اعلان نہ کیا۔

(سر) میں کوئی نہیں تھا تو اس کے لئے اپنے بھائی کو اپنے بھائی کے لئے کوئی نہیں تھا۔

(1) گیو چاره سرمه سرمه سرمه سرمه
 (2) گیو چاره سرمه سرمه سرمه سرمه سرمه سرمه
 (3) گیو چاره سرمه سرمه سرمه سرمه سرمه سرمه

٤٧٣ مَنْ سَرِقَتْهُ فَلَمْ يَسْرِقْهُ إِنَّمَا سَرَقَهُ مَنْ كَانَ فِي أَنْفُسِهِ
 ٤٧٤ حَرَثًا فَلَمْ يَحْرُثْهُ إِنَّمَا سَرَقَهُ مَنْ كَانَ فِي أَنْفُسِهِ
 ٤٧٥ حَرَثًا فَلَمْ يَحْرُثْهُ إِنَّمَا سَرَقَهُ مَنْ كَانَ فِي أَنْفُسِهِ
 ٤٧٦ حَرَثًا فَلَمْ يَحْرُثْهُ إِنَّمَا سَرَقَهُ مَنْ كَانَ فِي أَنْفُسِهِ

35 حَسَرَ لَهُمْ وَلَهُمْ لَهُمْ حَسَرٌ (7)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْصَرَ فَلَا يُنْصَرُ فَيَتَوَسَّلُ إِلَيْنَا بِمَا لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ

۷) مکانیزم انتقال این اطلاعات در بین سلسله های انسانی
۸) مکانیزم انتقال این اطلاعات در بین سلسله های حیوانات

دَلْكَمُوسْ أَكَّا تَرْدَ سُوْمَوْ مِنْتَرْدَ حَنْدَ
كَسْرَسْ رَسْرَدَرْ دَرْدَرْ قَرْدَرْ كَرْسَرْ



﴿كَذَلِكَ نُنَزِّلُ لَكُم مِّن رَّحْمَةِ رَبِّكُم مِّنْ حَسَنَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ ذِكْرِ أَنَّهُ سَمِيعٌ لِّمَا تَتَوَدَّعُونَ﴾

(10) *תְּבִרְכָּה מֵאַבְרָהָם* *בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל*

(سر) ۶۰۰ جنگلی خوش ۱۰۰ متری سرمه

﴿وَمَنْ يُحْكِمُ الْأَيْمَانَ فَلَهُ مَا شَاءَ وَمَنْ يُؤْخِذُ عِصَمَيْنَ فَلَمْ يُؤْخِذْ بَعْدَهُمْ إِنَّمَا يُؤْخِذُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

(م) آنچوں میں جو کوئی تحریر (س) کا مشق و رتو ہے تو اسکے لئے

(۸) **مکانیزم انتقال** (مکانیزم انتقال) (مکانیزم انتقال)

(1) عَيْنُ قَرْسَى عَيْنُ قَرْسَى 100.000/- تِسْعَةٌ وَسَمِعْتُ

۲۰۷ میرزا جعفر ناصر حبیب‌الله ناصر؛ سرمه

24 حَسْنَةٌ مُّرَبَّدَةٌ 3 حَسْنَةٌ مُّرَبَّدَةٌ حَسْنَةٌ مُّرَبَّدَةٌ (2)

درسته تقریبی در تقریب میانگین از دو تقریب دیگر متفاوت است.

جی ٹی ٹی اسٹریٹ ہاؤس 100,000/- (3)

(٦) حَرَقَهُمْ فَلَمَّا دَعَهُمْ عَيْنَ قَرْبَسْ حَرَقَهُمْ وَغَرَقَهُمْ
فَلَمَّا دَعَهُمْ عَيْنَ قَرْبَسْ حَرَقَهُمْ وَغَرَقَهُمْ ٥ مَرَّةٍ
فَلَمَّا دَعَهُمْ عَيْنَ قَرْبَسْ حَرَقَهُمْ وَغَرَقَهُمْ ٦ مَرَّةٍ

وَمُؤْمِنٌ بِهِ



عَلَيْهِمْ سُرُوفٌ تَحْمِسُهُمْ وَعَلَيْهِمْ سُرُوفٌ تَحْمِسُهُمْ وَرَجُلٌ
جِرْجِيرٌ وَرَجُلٌ مَدْرَجٌ وَرَجُلٌ مَدْرَجٌ وَرَجُلٌ مَدْرَجٌ وَرَجُلٌ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُؤْتَى مَسْكَنًا فَلَا يَرَى

ج ۲۷ سری نامہ مکتبہ مولانا، راجہ

جَنَاحَاتِهِ سَرِيرَةٌ بَلْ كَوَافِرُهُ سَرِيرَةٌ هُنَّا (2)

سُورَةُ الْمُوْتَرَّ

(ر) حِلْقَةٌ مُكَوَّنةٌ مِنْ مُتَعَصِّبِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ

جُنْهُرِ سَرْجُونْ خَلْصَرْ جَوْهَرْ سَرْجُونْ جَوْهَرْ

وَرَسُولُهُ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ بِحَسْبِ رِزْقِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَعْلَمُهُ مُحَمَّدٌ

17. (-) የዕለታዊ ቤት አንቀጽ ፭ ማስታወሻ ተስተካክል ተስተካክል ተስተካክል ተስተካክል

(سر) مارکوں کے لئے ایک بھروسہ خوبصورت ہے جو اپنے تجسس کے لئے بہت مددگار ہے، اس کے لئے موس

۱۵۰۰ میلادی میان سال ۱۴۷۰ و ۱۴۸۰

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي السَّمَاوَاتِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِيْلَهُ عَلَىٰ مُّؤْمِنِيهِ لَكُلُّ أَنْشَاءٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِيْلَهُ عَلَىٰ مُّؤْمِنِيهِ لَكُلُّ أَنْشَاءٍ

خَلَقَهُ اللَّهُ مِنْ سُرْجَانٍ فَلَمَّا
أَتَاهُ أَنْذِلَهُ إِلَيْنَا

Digitized by srujanika@gmail.com

۱۰۰۰ میلیون دلار را در سال ۱۹۷۶ خریداری کرد.

مُؤْمِنَاتٍ حَمِيمٍ.

سرومه بجهت سرخوشی خود از برگزاری و تقویت سرسرای خبر می‌رسد

۱۶۳ ۹۲۶۸۶

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُوا أَنْ يُخْلَصُوا مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُوا أَنْ يُغْرَّبُ عَنِ الْحَسَنَاتِ فَلَا يُغْرَّبُ عَنِ الْحَسَنَاتِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِّيهِ وَلِلَّهِ الْحِلْفُ (٢)



مُؤْمِنٌ مُّسْتَرٌ بِجُنُونِ سُرَّهُ لَهُ، مُرْجُونٌ

سُورَةُ الْقَصَادِ، سُورَةٌ مُّكَفَّلَةٌ (1)

(2) **مَرْجَعٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** رَبِّكُمْ مَنْ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَمَا تَرَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ أَنْزَلَهُمْ مِّنْ

(۶) حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ
وَسِيرَ مَحَاجِعِي بِجَوَاجِعٍ حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ
أَلْمَهَتْنِي بِجَوَاجِعٍ حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ
سَرَعَوْهُ بِجَوَاجِعٍ حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ حَدَّدَهُ حَرَقْتَنِي بِجَوَاجِعٍ

(۷) میرزا جعفر سرخسی خان شفیعی از ائمه شیعیان و علماء اهل سنت بود که در اینجا مذکور شده است.



(سر) دیگر چیزی نداشتم و باید این خود را
بپسخواهی کرد. همچنانچه دوستی خود را
بپسخواهی کرد. همچنانچه دوستی خود را
بپسخواهی کرد. همچنانچه دوستی خود را
بپسخواهی کرد.

۱۹- میں صورتیں دیکھ لے گا۔ اس کے بعد میرے پاس ملے گے۔

جیلگیری مکانیزم

(-) .20 .
٣) میں سے ایک کوئی نہیں کہا جاتا۔

شہر قمر



مَشْرِقٌ وَمَغْرِبٌ
جَهَنَّمُ وَجَنَّةٌ

دَسْتُرُ وَوَرَقَهُ كَوْكَبٌ وَرَحْمَهُ كَوْكَبٌ
نَسْرٌ وَسَرَّهُ كَوْكَبٌ وَحَاجَهُ كَوْكَبٌ
دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ وَعَيْنَهُ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ وَأَنْهَرٌ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ وَأَنْهَرٌ كَوْكَبٌ.

(م) دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ
نَسْرٌ كَوْكَبٌ نَسْرٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ سَرَّهُ، أَنْهَرٌ نَسْرٌ سَرَّهُ
فَرِیضَهُ 2 دَسْتُرُ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ 2 دَسْتُرُ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ وَأَنْهَرٌ كَوْكَبٌ.

(م) دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ
نَسْرٌ كَوْكَبٌ سَرَّهُ نَسْرٌ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ
فَرِیضَهُ 2 دَسْتُرُ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ وَأَنْهَرٌ كَوْكَبٌ.

(م) دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ
نَسْرٌ كَوْكَبٌ نَسْرٌ دَسْتُرَهُ كَوْكَبٌ
فَرِیضَهُ بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ فَرِیضَهُ 3 دَسْتُرُ وَرَقَهُ
كَوْكَبٌ وَأَنْهَرٌ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ.

(م) دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ وَرَقَهُ كَوْكَبٌ
نَسْرٌ كَوْكَبٌ وَأَنْهَرٌ (نَسْرٌ سَرَّهُ نَسْرٌ سَرَّهُ)
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ كَوْكَبٌ فَرِیضَهُ 2 دَسْتُرُ وَرَقَهُ
كَوْكَبٌ وَأَنْهَرٌ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ.

دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ فَرِیضَهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ
نَسْرٌ سَرَّهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ
فَرِیضَهُ كَوْكَبٌ رَاسَهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ
بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ.

(م) بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ حَلْقَهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ
أَنْهَرٌ كَوْكَبٌ مَوْهَبَهُ كَوْكَبٌ بَدْلُونَهُ كَوْكَبٌ
فَرِیضَهُ كَوْكَبٌ كَوْكَبٌ حَلْقَهُ كَوْكَبٌ
فَرِیضَهُ سَرَّهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ دَجَنَّهُ كَوْكَبٌ.

21 . (م)

جَهَنَّمُ وَجَنَّةٌ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا أَعْشَى وَمَا أَنْهَاكَ عَنِّي

(سر) میں تحریر میں اسی سلسلہ کا ایک حصہ ہے۔

(ج) ۱۵ مئی ۲۰۰۷ء کے ایک سرسری میں ۱۵ مئی ۲۰۰۷ء کے ایک سرسری میں ۱۵ مئی ۲۰۰۷ء کے ایک سرسری میں

وَسَرَّهُ مُؤْمِنٌ ۖ وَلَا يَرْجُو حُكْمَ الْأَرْضِ ۖ وَلِلَّهِ الْحُكْمُ ۖ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوا ۗ

(۱۰) **ج** ۷۶۳ سوچنیکی ۷۶۴ کیمپنی کریسٹن ۷۶۵ کارل ۷۶۶ کارل
کریسٹن کیمپنی ۷۶۷ سوچنیکی ۷۶۸ کارل ۷۶۹ کارل ۷۷۰ کارل
کارل کارل کارل کارل کارل کارل کارل کارل کارل کارل کارل کارل



۱۰۶ میرزا خان عزیز سرخه از خود بگیر

٢ وَسَرَّ

(۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰) (۱۰۰)

(سر) **ج** جریان (سر) کے حکم سے جریان کے حکم سے مخالف ہے۔

(م) حِجَّةُ الْحَرَقَةِ (ر) ئَيْمَانُ الْمَنَارِ وَالْمَنَارُ مُهَبَّتٌ
 30 حِجَّةُ الْمَعْدُودِ ئَيْمَانُ الْمَنَارِ وَالْمَنَارُ مُهَبَّتٌ
 حِجَّةُ الْمَعْدُودِ وَالْمَنَارُ مُهَبَّتٌ ئَيْمَانُ الْمَنَارِ وَالْمَنَارُ مُهَبَّتٌ
 حِجَّةُ الْمَعْدُودِ وَالْمَنَارُ مُهَبَّتٌ ئَيْمَانُ الْمَنَارِ وَالْمَنَارُ مُهَبَّتٌ

(۸) مَحْمُودٌ حَمْدَهُ خَلِيلٌ حَمْدَهُ عَلِيٌّ حَمْدَهُ عَلِيٌّ حَمْدَهُ عَلِيٌّ



(۴) مکانیزم این نظریه را می‌توان با در نظر گرفتن این دو مورد بررسی کرد:
۱- مکانیزم این نظریه را می‌توان با در نظر گرفتن این دو مورد بررسی کرد:
۲- مکانیزم این نظریه را می‌توان با در نظر گرفتن این دو مورد بررسی کرد:



(م) حَدَّدَتْرُوْنَ حَرَبَرُوْنَ قَسَرَوْنَ مَسَرَرَوْنَ، وَأَنَّهُمْ
قَسَرَوْنَ سَرَجَرُونَ مَكَّةَمَكَّةَ، نَزَّلَهُمْ رِئَسَرُونَ، وَأَنَّهُمْ
قَسَرَوْنَ مَسَرَرَوْنَ، لَيْلَةَ الْمَسَرَّةِ، عَلَىٰهُمْ حَرَبَرُونَ.
قَسَرَوْنَ حَرَبَرُونَ، قَسَرَوْنَ حَرَبَرُونَ.

٢٦ . ملکه فتح علیه شریعت را علیه نمود در سرویس خود از این دستور را در پیشگیری از

مَسْرِقُهُ مَرْسَى
كَوْنِيَّةُ كَوْنِيَّةٍ
كَوْنِيَّةُ كَوْنِيَّةٍ

جی گلشن میرزا (-) .27 .25 .24

مَدِير 26 وَسْتَ كَوْنِي
كَوْنِي شِرْت
كَوْنِي شِرْت
كَوْنِي شِرْت

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ କଣ୍ଠାରୀ ମହିଳା ପରିଷଦ୍ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ପାତ୍ନୀ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାରେ ପରିଚାରିତ ହୁଏଅଛି ।

﴿سَمِعَهُمْ سَمِعَنَّا وَقَرَأُهُمْ قَرَأَنَّا وَلَمْ يَرَهُمْ لَمْ يَرَنَّا﴾

፳፻፲፭ የመሬኑን ተስተካክል እና ስራውን ተስተካክል የ፩፻፲፭

Digitized by srujanika@gmail.com

(سر) حجہ سرسری 24، 25، 26 شرعاً

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي الْأَرْضِ فَلَا يُؤْتَى مَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ



(سر) جو ترین اسلامیہ کا سٹوڈنٹ پرکریوی نے پر رئیس احمد سعید کو۔ اسے تھا۔
 (1) ملک مختار و عروج سر جعہ اس سر گوم فیصلے پر مارے۔

(ج) حَدِيقَةِ سُرْسَى 25 وَسِرَّ حَدِيقَةِ كَرْمَشَرِ الْمَوْسَى مَسْرِى حَدِيقَةِ،
حَدِيقَةِ قَرْبَوْغَ حَلْفَسَى حَرَبَنَى حَرَبَنَى سَرَقَشَرِ بَلْدَرِ حَدِيقَةِ حَدِيقَةِ 6
حَرَبَنَى قَرْبَوْغَ يَسَرَّ حَرَبَنَى قَرْبَوْغَ حَرَبَنَى سَرَقَشَرِ سَرَقَشَرِ حَدِيقَةِ.

(۸) حَرَقَ سُرْسِي 24 سُرْعَمَ 25 وَسَرَ حَرَقَ حَرَقَ سُرْسِي حَرَقَ سُرْسِي

፳፻፲፭ ዓ.ም. ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች ተስፋዎች (1)

۱۰۶ اَنْتُمْ تُفْرِجُونَ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَرَوْنَ
۱۰۷ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا يَرَوْنَ مَا
۱۰۸ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَرَوْنَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

۶۰۰ میلیون دلار را برای این پروژه در سال ۱۹۷۸ خواسته شد.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْجَى إِلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْجَى إِلَيْهِ

جَرَيْتُ مِنْ مَسْرَىٰ وَجْهَهُ مَحْرَمَتِي وَكَمْسَرُ دَرْقَهُ حَرَفَرَوْهُ



۱۴۷
۱۴۸ (۴) میرزا علی خان شیرازی از این طبقه بود که در سال ۱۲۰۶ هجری قمری در شیراز متولد شد و در آن شهر توانست در حوزه علمیه فعالیت داشته باشد. او از افرادی است که در این حوزه علمیه نسبت به امور اسلامی و ادبیات فارسی مطلع بودند و از این‌جا شروع کردند. او در این حوزه علمیه فعالیت داشته باشد. او از افرادی است که در این حوزه علمیه نسبت به امور اسلامی و ادبیات فارسی مطلع بودند و از این‌جا شروع کردند.

(٤) "جَرْجِيرْ" (أ) (٤) "جَرْجِيرْ" (ب) "جَرْجِيرْ" (ج) "جَرْجِيرْ" (د) "جَرْجِيرْ" (هـ) "جَرْجِيرْ" (زـ)

حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^١ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^٢ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^٣ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^٤ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^٥ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^٦ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^٧ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^٨ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^٩ وَسَرَّهُ نَكَدَهُ
 حِلْمٌ مُّنْهَى أَنْهَى عَوْرَجَتَهُ^{١٠} وَسَرَّهُ نَكَدَهُ



جَزِيلٌ مُسْتَهْجِنٌ
أَنْتَ وَرَبُّكَ تَرْجِعُونَ
مَسْتَهْجِنٌ



፩፻፲፭ የፌዴራል ተስፋዎች

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَلَا يَرْجُو حُكْمَ الْأَنْجَارِ

میراث اسلامی

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حُكْمًا مِّنْ أَنْفُسِهِ وَمَا يَرْجُونَ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

جَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ وَجَرْجَرٌ

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ

سُر سُر و حَسْرَه

(مر) دَرَجَاتُ الْعِزَّةِ (۱) وَالْمُنْتَهَىُّ بِهِ مَرْجَعُكُمْ يَوْمَ الْحِسْبَارِ

፳፻፲፭ ዓ.ም. ማስታወሻ በመሆኑ፣ ከፃፈት ጥሩ መሆኑን የሚያስተካክለሁን የሚከተሉ ስርዓት የሚከተሉ ስርዓት (1)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْهَا عَنِ الْحَقِّ فَلَا يُنْهَى وَمَنْ يَرْجُو أَنْ يُنْهَا عَنِ الْحَقِّ فَلَهُ أَنْهَى

سُرُومَهُ سُرُومَهُ سُرُومَهُ سُرُومَهُ سُرُومَهُ

وَلِمَنْدَرْ وَلِمَنْدَرْ وَلِمَنْدَرْ وَلِمَنْدَرْ وَلِمَنْدَرْ

۱۲۶ ۱۲۵ ۱۲۴ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۱۲۰

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حُكْمًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو شَفَاعَةً

جَهَنَّمُ وَالْجَنَّةُ (۲۰)



وَمُؤْمِنٍ بِرَبِّهِ وَالْمُجْتَمِعِ الْمُسْلِمِ (۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۲۰۶ میں اسی طبقے کو دیکھنے کا سعی کیا گیا تھا۔ (2)

جَنَاحَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (3)

مکالمہ میری خواہ

٦٥٣

(خ) تحریر سری ۵ تحریر سری ۶ تحریر سری ۷ تحریر سری ۸ تحریر سری ۹ تحریر سری ۱۰

مُوْسَى مُوسَى مُوسَى مُوسَى مُوسَى مُوسَى مُوسَى مُوسَى

كمسن جرجرش سانجورن مونجورن دنگر سانجورن (1)

۱۰۰۰ تر فروخته اند

۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰

ପ୍ରକାଶ ମହିନାରେ ଏହାର ପରିମା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା ।

سُرْجَانِيَّةٌ

$\text{p} \text{v} \text{v} \text{v}$ $\text{z} \text{z} \text{z}$ $\text{z} \text{z} \text{z}$ $\text{z} \text{z}$ $\text{z} \text{z} \text{z}$ $\text{z} \text{z} \text{z}$ $\text{z} \text{z} \text{z}$ (3)

၁၃၁၂ ၁၃၁၃ ၁၃၁၄ ၁၃၁၅ ၁၃၁၆

“CCS” 20 “CCS” 21

K-2222-0606

$\overline{\overline{1}} \quad \overline{1} \overline{2} \overline{2} \overline{0} \overline{0} \quad \overline{0} \overline{x} \quad \overline{\overline{0}} \overline{\overline{1}} \quad (-) \quad \overline{\overline{0}} \overline{\overline{0}} \quad ? \quad (1)$

0-1-C=C0>u 0>x C0C0C 0->u = -oxo=-

— ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ — ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ — ۷ ۸ ۹ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ —

۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴

۱۶۳ ۶۶۶۸۶ ۹ ۱۶۱ ۸۱۱۲ ۶۶۶



وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْرَجَ إِلَيْهِمْ وَمَا يَرْجُونَ
أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ

(۶) حَدَّرْهُو (س) کے حَرْسِرْ گَسْرِیں دَرْجِ مَوْرِجِیْحَ کے حَرْسِرْ دَرْجَوْ مَوْنَامِ رَقْبَهُو اَنْجَلْهُو اَنْجَلْهُو سَرْجَنْهُو سَرْجَنْهُو.

وَيُنْهَىٰ إِلَىٰ وَرِيعٍ بَلَّانِيٍّ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ
يَرِيدُ لِتَرْكِهِ سَرَوْمَهُ وَأَنْقَرَهُ وَيُنْهَىٰ إِلَىٰ
وَرِيعٍ بَلَّانِيٍّ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ يَرِيدُ لِتَرْكِهِ سَرَوْمَهُ
وَيُنْهَىٰ إِلَىٰ وَرِيعٍ بَلَّانِيٍّ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ يَرِيدُ لِتَرْكِهِ سَرَوْمَهُ
وَيُنْهَىٰ إِلَىٰ وَرِيعٍ بَلَّانِيٍّ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ يَرِيدُ لِتَرْكِهِ سَرَوْمَهُ
وَيُنْهَىٰ إِلَىٰ وَرِيعٍ بَلَّانِيٍّ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ يَرِيدُ لِتَرْكِهِ سَرَوْمَهُ
وَيُنْهَىٰ إِلَىٰ وَرِيعٍ بَلَّانِيٍّ فَإِنَّمَا يَعْلَمُ مَنْ يَرِيدُ لِتَرْكِهِ سَرَوْمَهُ

(3) گیزیریں خرچہ سرخی دے کر میریں، سروچہ گیزیریں سوچہ بھر جائیں
کیڑیں سروچہ اُرچہ سے بھر جائیں تھریں، تھریں
تھریں تھریں تھریں تھریں تھریں تھریں تھریں
مکانیں کھنڈیں کھنڈیں کھنڈیں کھنڈیں کھنڈیں

(و) بِرَوْتَوْرَسْ خُوْسَهْ؟

መስጠት ተመርሱ የሚገኘውን ስምምነት እንደሆነ ይረዳል (1)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حَيَاةً دُنْدُونًا فَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَرْدَقٌ

۲۰۱۷-۰۹-۰۶

۱۰۶۰۰ مسروق شد و ۱۰۷۰۰ تا ۱۰۸۰۰ میلادی در این دوران



۷۰ میرزا علی خان

- ۱۰۶ مکالمه هایی از میرزا خان (۲) (۱) (۳)

مَوْسُوْدَةٌ، اَنْتَرَى تَحْكِيمَهُ وَمَوْسُوْدَةٌ فَوْسَادَهُ وَمَوْسُوْدَةٌ

- (۲) د تاریخ ۱۷ مارس ۱۹۴۷ء موسسہ نامہ ویر، احمد شاہ
برٹش گورنر ڈیسٹرکٹ چینی گورنمنٹ چینی گورنمنٹ
ریاستی حکومت کے نمائندے ہیں۔

30. (ر) 29 مئے 2009ء کو حکومت پاکستان کی جانب سے اپنے
مذکورہ قانون کا تائید کرنے والے افراد کی کیا تحریک کی جائے؟

(سر) دیکھوئے تھے "تائے بڑوں کوئے سب خوب سمجھا" تھے تو فریاد موسیٰ

- (1) سُوْدَانِيَّةٌ مُهَاجِرَةٌ مُهَاجِرَةٌ سُوْدَانِيَّةٌ مُهَاجِرَةٌ مُهَاجِرَةٌ سُوْدَانِيَّةٌ مُهَاجِرَةٌ

(٢) دَلْجَرَرْدُ (د) دَلْجَرَرْدُ حَمْرَرْدُ وَ دَلْجَرَرْدُ دَلْجَرَرْدُ دَلْجَرَرْدُ

- (1) سَدِّ بَرْوَرْ وَرْسَرْ تَرْجِيْهَةَ مَكْنَنْ سَرْدَقْ قَرْمَحْ كَرْجَنْ، دَعْيَه
 (2) دَسْرَرْ دُوْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ دَسْرَرْ



۔ فوجیہ مکھ خود و گورنر

(٦) م حَرَقْتُمْ مَنْ قَاتَلَنَا وَمَنْ سَوَّمَ

۶۰۶ مُرَدِّ حَسَنٍ، ۶۰۷ بِرَوْحَنْ وَرَبِّيَّ خَيْرَ سَمَاءِ رَبِّيٍّ قَرِيبَهُونَ، ۶۰۸
۶۰۹ مُرَدِّ حَسَنٍ تَبَرِّيَّ نَبِيَّ مُكَانَهُ ۶۱۰ بِرَوْحَنْ وَرَبِّيَّ سَرَوَمَهُ ۶۱۱
۶۱۲ حَمَدَهُ صَفَرَ حَمَدَهُ صَفَرَ ۶۱۳ دَرَنْ سَرَوَمَهُ حَقَّرَ دَرَنْ ۶۱۴
۶۱۵ رَحَمَهُ مُوكَبَهُ دَرَنْ أَهْلَهُ حَسَنَهُ، ۶۱۶ خَيْرَ سَمَاءِ رَبِّيٍّ

سُرْجَرِيْنْ سُرْجَرِيْنْ سُرْجَرِيْنْ سُرْجَرِيْنْ سُرْجَرِيْنْ سُرْجَرِيْنْ

سُرْوَمَ

CCC = OCL OX // / OCL C

— 1 —

$$c x \equiv c \alpha$$

(1)

(2)

၁၃၁၂ ၁၃၁၃ ၁၃၁၄ ၁၃၁၅ ၁၃၁၆

۱۳۰

۱۷۱

0-26/- 2 2222/- = - 44222024 06/- 2 42222 () 21 42 22 22 22

۶۶۶۹۶ ۰۱ ۴ ۳ ۰۶ ۲۳ ۰ ۴۲۰۶

$$\cdots \quad \overset{\circ}{\alpha} \overset{\circ}{\beta} \overset{\circ}{\gamma} \overset{\circ}{\delta} \overset{\circ}{\epsilon} \overset{\circ}{\zeta} \overset{\circ}{\eta} \overset{\circ}{\theta} \overset{\circ}{\nu} \overset{\circ}{\rho} \overset{\circ}{\sigma} \overset{\circ}{\tau} \overset{\circ}{\omega} \cdots \quad (1)$$



(بر) دی گلہر کو "تاریخ" کے مکمل کوئی نہ ہوتا تھا جو شروع کی جو موسم چوتھے تھے
گلہر کے وہ سو شہر میں تھے جو کوئی سو شہر تھے اس کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے
گلہر کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے اس کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے
گلہر کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے اس کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے
گلہر کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے اس کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے
گلہر کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے اس کی وجہ تھی کہ جو موسم چوتھے تھے

٣ ﴿سَرَّ﴾

جٰنَتْ سُرِّيَّةَ نَوْشَرْهَى 32 . (-) جٰنَتْ سُرِّيَّةَ نَوْشَرْهَى
جٰنَتْ سُرِّيَّةَ نَوْشَرْهَى جٰنَتْ سُرِّيَّةَ نَوْشَرْهَى
جٰنَتْ سُرِّيَّةَ نَوْشَرْهَى جٰنَتْ سُرِّيَّةَ نَوْشَرْهَى
جٰنَتْ سُرِّيَّةَ نَوْشَرْهَى جٰنَتْ سُرِّيَّةَ نَوْشَرْهَى

(بر) خانہ تھے جو کوئی سارے بڑے مدد و مددگار ہے۔



(1) (-) 33. میتو نیشانه علیم شرکت چشمکوی خود را در پنجه داشت،
که از پنجه خود بگیرید و آن را بر سر خود بسته بود.

(مر) حفظ ملخص درس ساخت ادبیات فارسی متوسطه درس ساخت ادبیات فارسی متوسطه



• ፳፻፲፭ ዓ.ም. ተስፋይ የፌዴራል የፌዴራል

(٥) حِجَّةُ الْحَرَقَى (الْمُهَاجَرَةُ) حِجَّةُ الْمُهَاجَرَةِ حِجَّةُ الْمُهَاجَرَةِ حِجَّةُ الْمُهَاجَرَةِ

(د) **حَدَّادُهُمْ** (ـ) وَ **حَرَبَسُ** **فَسَرُو** **أَنْتَوْكَشِنْ** **لَهُمْ**
جَرَّانُهُمْ **وَسَعْيُهُمْ** **قَرَبَهُمْ** **لَهُمْ**، **لَهُمْ** **عَجَّلَهُمْ** **أَجَّارِ**
سَرَّاجُهُمْ **أَنْتَرُهُمْ** **بَحَرَهُمْ** **لَهُمْ** **بَحَرَهُمْ** **عَسْرَاجُهُمْ** **رَسَّاجُهُمْ**.
أَجَّارِ **دَنَاسُ** **بَرْبَوْنَهُمْ** **لَهُمْ**، **أَقَصَّهُمْ** **لَهُمْ** **مَرَّانَهُمْ** **لَهُمْ**
سَرَّاجُهُمْ **فَسَرُوْنَهُمْ** **لَهُمْ** **لَهُمْ** **لَهُمْ** **لَهُمْ**.

(مر) حجّاج خرد (ر) و خیرش خارسی که می‌بود خوشسرخ خودست
خرچه دشنه بوده که بر خود نماید خارسی که می‌بود خوشسرخ
بخت خود، بخت خود سرسرانه بروزد شروع می‌گذرد خودست



۹۰ مکانیزم این سرعت را می‌توان با توجه به این دو عوامل برآورد کرد.

٤ وَسْمَانٌ

፩፲ 36. (-) ተ ገዢያ የጥምስ አገልግሎት ተሸዋይ፣ ይረዳ ፈቃድ መሸሪያ
በግዢያውንና ተሸዋይ ተሸዋይ የጥምስ አገልግሎት ተሸዋይ፣ የጥምስ አገልግሎት
ቻቻ ተሸዋይ ተሸዋይ የጥምስ አገልግሎት ተሸዋይ፣ የጥምስ አገልግሎት
የጥምስ አገልግሎት ተሸዋይ ተሸዋይ የጥምስ አገልግሎት ተሸዋይ፣ የጥምስ አገልግሎት



جَنَاحُهُ مُبِينٌ وَمُسْتَقِرٌ عَلَى سَرَرِ الْمَوْلَى

(سر) ملکہ کو اپنے سربراہی کا عہدہ دیتی ہے جس کا نام ”عہدہ دینے والے“ ہے۔ اس کا تاریخی مطلب یہ ہے کہ ملکہ کو اپنے سربراہی کا عہدہ دیتے ہوئے، اس کو اپنے سربراہی کا عہدہ دینے والے کا نام دیا گیا۔

(م) رئیس سرکرد نامه

(1) **خ** چهارمین حکم نیوگرینگ ایالتی که در آن سفرگردانی ممنوع شد. (۱۹۴۷)
خ پنجمین حکم نیوگرینگ ایالتی که در آن سفرگردانی ممنوع شد. (۱۹۴۸)
خ ششمین حکم نیوگرینگ ایالتی که در آن سفرگردانی ممنوع شد. (۱۹۴۹)

۱۰- مکالمہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے تجربے کا شرح پر مبنی ہے۔

جَعْلَرْ بَرْ (۸)



جَنَاحَتْ سُرْكَرْهَنْدَرْ، مَرْجَوْهَنْدَرْ حِسْرَوْهَنْدَرْ تَمْكِيْحَهَنْدَرْ
تَمْكِيْحَهَنْدَرْ بِرْجَهَنْدَرْ قَرْجَهَنْدَرْ سَرْجَهَنْدَرْ حَنْجَهَنْدَرْ تَمْكِيْحَهَنْدَرْ
قَرْجَهَنْدَرْ، مَهْمَرْ

بَرْجَرَ قَرْنَرَ لِلْمُكَوْنَسَةِ مَنْكَرَ رَدْسَرَ قَرْنَرَ وَسَرَّ
 بَرْجَرَ بَرْجَرَ سَرَّ، أَنْ بَرْجَرَ بَرْجَرَ قَرْنَرَ وَسَرَّ نَسَرَ قَرْنَرَ
 بَرْجَرَ بَرْجَرَ وَسَرَّ حَرَسَرَ نَسَرَ قَرْنَرَ سَوَّسَرَ سَرَّ وَسَرَّ
 سَرَّ سَوَّسَرَ تَسَرَّسَرَ قَرْنَرَ، حَرَسَرَ نَسَرَ قَرْنَرَ حَرَسَرَ
 حَرَسَرَ قَرْنَرَ وَسَرَّ بَرْجَرَ بَرْجَرَ، حَرَسَرَ نَسَرَ قَرْنَرَ حَرَسَرَ
 سَرَّ، أَنْ بَرْجَرَ بَرْجَرَ مَنْكَرَ رَدْسَرَ قَرْنَرَ وَسَرَّ

(۷) مُهَاجِرٌ، وَقَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ حِسْرٌ وَبَرْدٌ فَهَذِهِ حَسْرٌ ۚ وَهَذِهِ بَرْدٌ ۖ وَهَذِهِ مَنْزَلٌ لِلْمُجْرِمِينَ ۖ

(١) مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَبَتْهُ الْجَاهِلِيَّةُ وَأَخْرَجَهُ الْمُنْكَرُ
 (٢) وَأَخْرَجَهُ الْمُنْكَرُ فَلَمْ يَرَهُ مَنْ يَرِدُهُ وَلَمْ يَرِدْهُ مَنْ يَلْهُ
 (٣) وَلَمْ يَرِدْهُ مَنْ يَلْهُ وَلَمْ يَرِدْهُ مَنْ يَلْهُ وَلَمْ يَرِدْهُ مَنْ يَلْهُ

(و) **مَرْجِعُهُ** مَرْجِعُهُ تَسْرِيْفٌ مَنْتَهِيٌّ وَمَرْجِعُهُ تَسْرِيْفٌ مَنْتَهِيٌّ
 مَرْجِعُهُ تَسْرِيْفٌ مَنْتَهِيٌّ وَمَرْجِعُهُ تَسْرِيْفٌ مَنْتَهِيٌّ



四

፳፻፲፭ የፌዴራል ማኅበር ተስፋዎች

مکتبہ

(١) حِرْفُوْرْتَجْدَرْ بِهِسْتَلَرْ وَحَسْتَلَرْ قَرْتَمْهُوْرْ
 (بِهِسْتَلَرْ قَرْتَمْهُوْرْ بِهِسْتَلَرْ سَرْوَمْ بِهِسْتَلَرْ) حِرْفُوْرْتَجْدَرْ
 حِرْفُوْرْتَجْدَرْ بِهِسْتَلَرْ سَرْوَمْ بِهِسْتَلَرْ قَرْتَمْهُوْرْ
 حِرْفُوْرْتَجْدَرْ بِهِسْتَلَرْ سَرْوَمْ بِهِسْتَلَرْ قَرْتَمْهُوْرْ
 حِرْفُوْرْتَجْدَرْ بِهِسْتَلَرْ سَرْوَمْ بِهِسْتَلَرْ قَرْتَمْهُوْرْ

(سر) جے گلہری خرپڑی نامخال جے خرپڑی دینرو خرپڑی رکھنے کا
جے گلہری 35 وسی گلہری خرپڑی خوش چھٹی سڑکوں پر جے خرپڑی
چھٹی سڑکوں پر جے خرپڑی خوش چھٹی سڑکوں پر جے خرپڑی
جے خرپڑی خوش چھٹی سڑکوں پر جے خرپڑی خوش چھٹی سڑکوں پر جے خرپڑی

(مر) دیگر تحریری (-) اگر رشته سرو خود را که میتواند همچنانچه میتواند
آن را درست نمایند و آن را برای سرمهی خود نهاده کنند و آن را
پس از آنکه شروع شود و هر چند که سرمه خود را نهاده کنند
درینه نمایند و آن را درینه نمایند، آن را برای تحریر نهاده کنند
و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند
و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند
و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند
و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند
و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند و آن را درینه نمایند



٥ وَسْرَهُ

(-) . 39

جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ 90

(سر) جو خداوند میگشود که در آن دنیا نیز خود را بخواهد
که این دنیا را بخواهد که در آن دنیا نیز خود را بخواهد
که این دنیا را بخواهد که در آن دنیا نیز خود را بخواهد
که این دنیا را بخواهد که در آن دنیا نیز خود را بخواهد
که این دنیا را بخواهد که در آن دنیا نیز خود را بخواهد

(۱) عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوهُ إِلَى مَوْلَانَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَرْجِعُوهُمْ إِلَى مَوْلَانَهُمْ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْذِنُوا بِمُقْرَبَةٍ إِلَيْهِمْ فَلَا يُرِيدُونَ إِنْجَاحَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَا يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْذِنُوا بِمُقْرَبَةٍ إِلَيْهِمْ فَلَا يُرِيدُونَ إِنْجَاحَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ

جعفر بن محبث
الخطيب

(+) (-) .41

عَلِيٌّ بْنُ عَمَّارٍ وَهُنَافِرُهُ وَهُنَافِرُهُ وَهُنَافِرُهُ وَهُنَافِرُهُ وَهُنَافِرُهُ



جَعْلَةً مُهَاجِرَةً لِلْمُهَاجِرَةِ وَجَعْلَةً مُهَاجِرَةً لِلْمُهَاجِرَةِ

(2)

جَعْلَنْ سَرْجَنْ سَرْجَنْ سَرْجَنْ سَرْجَنْ سَرْجَنْ سَرْجَنْ سَرْجَنْ

(۱۰) مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْبٍ يُرَى
وَمَنْ يَعْمَلْ أَثْقَالَ سَرْبٍ يُرَأَى.

دُرْسَهُو تَرْكَهُ (1)

جَرْجَرٌ وَّ جَرْجَرٌ (2)

جِرْجِرْ مُوسَىٰ مُوسَىٰ جِرْجِرْ (3)

جَنْدُونْسَى 18 مِئَةٌ قَوْمٌ وَّرْبَوْسَى (4)

وَرَسُولُهُ وَجْهُهُ سَمِيعٌ لِّغُورٍ وَّشَارِقٌ لِّغَارٍ (6)

شَوَّهْ بَرْ جَهَوْرْ كَوْهْ مُوْهْ عَرْجَوْ دَرْجَوْ نَادِيْرَ سَرْجَوْرْ;

۷) ﴿۱۰﴾ ﴿۱۱﴾ ﴿۱۲﴾ ﴿۱۳﴾ ﴿۱۴﴾ ﴿۱۵﴾ ﴿۱۶﴾

(8) میں وہ صورت میں کوئی نہیں کر سکوں؟



መሸጋጌ ቅጂዬስ አዎች ስርጓሜ ቅጂዬስ የሚከተሉትን ማረጋገጫዎች
በቅጂዬስ የሚከተሉትን ማረጋገጫዎች ተቀብያል ተቀብያል ስርጓሜ፣

(10) سُرُومَةٌ سُرُومَةٌ سُرُومَةٌ سُرُومَةٌ سُرُومَةٌ

۱۰۰۰ میلیون دلار را در این سال می‌گذراند.

سُوْرَةِ الْمُنْذِرِ تَعْلِيَةً وَتَرْجِيْهُ مُسْتَوْدِرٌ (11)

(12) **الجُنُوُّ سُورَةُ الْجُنُونِ** تُسْرِهُ الْمُجْنَونُ إِذَا دَرَأَهُمْ سُرُورٌ؛

سُوْرَةُ سَمْرُونَةِ تَحْرِيْجٍ قُرْبَةَ كَوْهْ سُرْفُوسْ: (13)

جَرْوَيْتْ (14) جَسْمَهُ تَلْبِيْرْ جَوْهَرْ جَوْهَرْ

جَوَاحِدُ الْمُؤْمِنِينَ

وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَالْمُسْتَقِرٌ عَلَىٰ حَلَاقَةِ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ
وَمُؤْمِنٌ بِرَبِّهِ وَالْمُسْتَقِرٌ عَلَىٰ حَلَاقَةِ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ

"^۰^۱^۲^۳ سرمه" ^۰^۱^۲^۳ سرمه ^۰^۱^۲^۳ سرمه (4)



47. የሸጋዣና ስርዓት በመስቀል እንደሆነ የሚከተሉት በቻ ተመዝግበ ይችላል፡፡

٦ وَسَهْلٌ

٤٨- نَمَرُونَ قَدْرَتِي مُهَاجِرَةً إِلَيْكُمْ لِمُنْجَاهَةِ الْمُنْجَاهِينَ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَعْلَمُ فَلَا يَرْجُوا
مُهَاجِرَةً إِلَيْكُمْ إِلَّا كَمَا يَرْجُوا مُهَاجِرَةً إِلَيْكُمْ
أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَعْلَمُ فَلَا يَرْجُوا
مُهَاجِرَةً إِلَيْكُمْ إِلَّا كَمَا يَرْجُوا مُهَاجِرَةً إِلَيْكُمْ



﴿كُلُّ فَرِيقٍ يُنَزَّلُ مِنْ كِتَابٍ وَمَا هُوَ بِهِ بِغَافِرٍ﴾
 ﴿كُلُّ فَرِيقٍ يُنَزَّلُ مِنْ كِتَابٍ وَمَا هُوَ بِهِ بِغَافِرٍ﴾

(سر) حِجَّةُ تَمْرِسَرٍ بَرْجَهُ خُورَشِدَهُ فَوَرَّسِيٌّ حِجَّةُ تَمْرِسَرٍ مَهْبُبَهُ خُورَشِدَهُ فَوَرَّسِيٌّ
غَسَّارَهُ تَمْرِسَرٍ.

(سر) دِ تَوْجِيْه سَرِّيْرَى تَرَدِيْرَى سَرِّيْرَى سَرِّيْرَى دِ تَوْجِيْه سَرِّيْرَى مَوْبُدِيْه تَرَدِيْرَى
مَوْبُدِيْه تَرَدِيْرَى تَرَدِيْرَى ٦ دَسَّه تَرَوَدِيْرَى مَوْبُدِيْه تَرَدِيْرَى سَرِّيْرَى
سَرِّيْرَى تَرَدِيْرَى



وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو
أَنْ يُؤْتَنَ حِلْمَةً
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو
أَنْ يُؤْتَنَ حِلْمَةً

جَنَاحَتْ كَرْبَلَةَ سَرْجِعَ "سَادَرْ كَرْبَلَةَ سَرْجِعَ" حَمَدَهُ
جَنَاحَتْ كَرْبَلَةَ سَرْجِعَ "سَادَرْ كَرْبَلَةَ سَرْجِعَ" حَمَدَهُ
جَنَاحَتْ كَرْبَلَةَ سَرْجِعَ "سَادَرْ كَرْبَلَةَ سَرْجِعَ" حَمَدَهُ

"خَوْجَ سَرْغُونْ بْنُ وُبْرَ" نَادَى تِلْكَى قَرْبَهُ مَدْرَسَهُ فَقَدِمَتْ لَهُ سَرْغُونْ
أَبْنَاهُ وَهُوَ قَدِيمَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ تَكْهُنْ تَكْهُنْ، سَرْغُونْ
جَيْهُ كَعْبَهُ تَكْهُنْ حِرْمَانْ كَعْبَهُ سَرْغُونْ، سَرْغُونْ وَهُوَ كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ
كَعْبَهُ تَكْهُنْ حِرْمَانْ كَعْبَهُ سَرْغُونْ، سَرْغُونْ كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ تَكْهُنْ. سَرْغُونْ
كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ سَرْغُونْ كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ سَرْغُونْ كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ
كَعْبَهُ تَكْهُنْ كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ سَرْغُونْ كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ سَرْغُونْ كَعْبَهُ حِرْمَانْ كَعْبَهُ

(سر) جنہیں ملکے کو اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اسی کی وجہ سے اس کی دعویٰ کو اپنے بھائیوں کی طرف سے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا۔